

کیا خدا جھوٹ بول سکتا ہے

WWW.NAFSEISLAM.COM

"THE NATURAL PHILOSOPHY
OF AHLE SUNNAT WA JAMAAT"

جمہورائتہ اسلام، امام احمد رضا اور ان کے
مخالفین کے موقف کا اجمالی جائزہ !

مبارک حسین مصباحی

انتساب

اس جلیل القدر محقق، عالم ربانی اور پیکر اخلاص و تقویٰ

کے نام

جو

اہل عرفان و تقویٰ میں — پابندِ شرع، عاشقِ رسول اور پرہیزگار ہیں

یلسندِ پایہ اساتذہ میں — قابلِ فخر اور متبحر اساتذہ ہیں

ادیبوں اور قلم کاروں میں — صاحبِ طرز ادیب اور مستند مصنف ہیں

حسن انتظام اور نظم و نسق کے میدانوں میں — صاحبِ رائے منتظم اور فلک پیمائے مدبر ہیں۔


یعنی

استاذنا المکرم حضرت علامہ محمد احمد مصباحی الجامعۃ الاشرافیہ مبارکپور

جن کے

دستِ خوانِ علم کی خوشنویسی ہی مجھ سچے مددگار کی تمام تر پونجی ہے۔

مبارک حسین مصباحی



امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز تیرہویں صدی ہجری کے مجدد اور اپنے
عہد میں نابغہ روزگار تھے آپ نے ستر علوم و فنون پر ایک ہزار سے زائد کتب و رسائل تصنیف
فرمائے۔ آج عالم اسلام میں علماء، مشائخ، محققین اور دانشوروں کے درمیان آپ کے علمی،
فکری، اور تحقیقی سرمایہ کی دشمنی ہے۔

جناب میر عبد الجبار ڈپٹی چیئرمین (SENATE OF PAKISTAN) اسلام آباد

لکھتے ہیں:

امام احمد رضا خاں ہمہ گیر شخصیت کے مالک تھے انہوں نے تقریباً

ستر علوم و فنون پر ایک ہزار سے زیادہ کتابیں لکھیں۔

امام احمد رضا ایک عظیم معلم اور بلند پایہ فقیہ تھے آپ کی فکر و تحقیق اور فتویٰ نویسی

کاسب سے معاذ کمال رہتا کہ آپ نے اسلامی عقائد و نظریات کے تعلق سے جتنا کھار ب

لے مجدد امام احمد رضا کانفرنس کراچی ۱۹۵۷ء ناشر ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کراچی۔

قرآن و سنت اور مسلک جمہور کی روشنی میں تھا، اسلام کے بنیادی نظریات میں نہ اپنی
 فکری اختراع کی دخل اندازی کی اور نہ غیروں کی جانب سے کسی افراط و تفریط کو برداشت
 کیا۔ اس عقل پرستی اور فکری آوارگی کے دور میں یہی وہ اہم خصوصیت ہے جس نے آپ
 کو عالم اسلام کا سب سے مستند مفتی اور سواد اعظم کا پیشوا بنا دیا، بلکہ آج کے دور میں حقانیت کا
 علامتی نشان۔ اسلامی عقیدہ و عمل کے تعلق سے آپ امام احمد رضا کی کوئی بھی کتاب
 یا فتویٰ اٹھا کر دیکھے ہر مدعا پر قرآن و سنت کے دلائل کا انبار اور جمہور علماء و فقہاء محدثین
 اور مفسرین کے اقوال و ترجیحات کا بحر ذخار نظر آئے گا۔ ان حقائق کی روشنی میں ہم
 اعتماد و یقین کی رے بلند چوٹی سے یہ دعویٰ کرنے میں حق بجانب ہیں کہ امام احمد رضا
 کسی نئے مسلک اور کتب فکر کے بانی نہیں تھے بلکہ وہ انہیں عقائد و نظریات کے
 مبلغ و ترجمان تھے جو ہر دور میں جمہور علماء و مشائخ کے رہے ہیں اور جو چودہ سو برس سے
 متواتر اور متواتر چلے آرہے ہیں۔ اس کا اعتراف انہیں اختیار رہنے کیلئے ہے۔
 مولانا ابوالحسن زید فاروقی دہلوی لکھتے ہیں:

اس میں قطعاً کلام نہیں کہ علامہ اجل مولانا احمد رضا خاں صاحب دہلوی
 مائیں مانع عالم تھے..... اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمالات سے بہرہ اندوز
 کیا اور آپ نے مدۃ العزم مسلک جمہور کی تائید کی ہے

۱۔ مجلہ امام احمد رضا کانفرنس کراچی ۱۹۱۵ء ص ۱۹ ناشر ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کراچی۔

جماعت اہل حدیث کے مشہور عالم مولوی ثناء اللہ امرتسری ۱۹۳۷ء میں اس حقیقت کا اعتراف کر چکے ہیں۔

امرتسری میں مسلم آبادی، غیر مسلم آبادی، (ہندو، سکھ وغیرہ) کے مساوی ہے۔ اسی سال قبل تقریباً سب مسلمان اسی خیال کے تھے۔ جن کو آج۔ بریلوی حنفی خیال کیا جا رہا ہے۔

جناب امرتسری صاحب کی یہ تحریر ۱۹۳۷ء کی ہے جبکہ ان کا اعتراف ہے کہ اس اسی برس قبل امرتسری میں تمام مسلمان سنی حنفی بریلوی تھے یعنی ۱۸۵۷ء میں مارے مسلمان اہل سنت و جماعت تھے۔ چند لٹے ٹھہر کر ایک اور دھماکہ نیز اعتراف پڑھے۔ دیوبندی مکتب فکر کے مشہور مؤرخ مولانا سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں۔

تیسرا فریق وہ تھا جو شدت کے ساتھ اپنی قدیم روش پر قائم رہا اور اپنے کو اہل السنۃ کہتا رہا۔ اس گروہ کے پیشوا زیادہ تر بریلی اور بدایوں کے علماء تھے۔

شیخ محمد اکرم صاحب امام احمد رضا کی قدامت پسندی کی تائید کرتے ہوئے لکھتے ہیں انہوں (امام احمد رضا) نے نہایت شدت سے قدیم حنفی

۱۔ مولوی ثناء اللہ امرتسری۔ شیخ توحید ص ۱۲۱ مطبوعہ سرگودھا۔ ۲۔ مولانا سلیمان ندوی حیات نبوی ص ۴۳ مطبوعہ دارالمصنفین اعظم کراچہ

طریقوں کی حمایت کی لے

یہ ان حضرات کی تحریریں ہیں جو نظریاتی اعتبار سے امام احمد رضا کے ہمنوا اور ہم فکر نہیں بلکہ مخالف گروہ کے مستند ہیں۔ کیا ان حقائق کے بعد بھی ہمارے اس معا کے اثبات کے لئے مزید کسی اتہام حجت کی گنجائش رہ جاتی ہے کہ امام احمد رضا کسی نئے مسلک اور نئے مکتب فکر کے بانی نہیں تھے، بلکہ آپ متواتر مسلک جمہور کے مسلک اور سرگرم مبلغ تھے۔ میرے دعوے کی اس سے قوی دلیل یہ ہے کہ موجودہ اختلافات سے قبل پورے ہندوستان کے مسلمان انہیں عقائد و نظریات کے حامل اور مسلح تھے جن کی ترجمانی امام احمد رضا نے کی ہے طول تو لوسی سے پرہیز کرتے ہوئے ہم صرف ایک تاریخی شہادت پر اکتفا کرتے ہیں۔

پروفیسر فیاض کاوش ہندوستانی مسلمانوں کی فکری اور مذہبی تاریخ کا جائزہ لیتے ہوئے رقم طراز ہیں۔

شروع شروع جب مسلمان ہندوستان میں آئے تو ان سب کا ایک عقیدہ ایک مذہب اور ایک مسلک تھا
طوطی ہند حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام بلاغت نظام میں اسی کی نگی کا ذکر فرمایا ہے۔

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب
 "ردّ و انقض" میں مسلمانوں کی اس نگری و غیبتی ہم آہنگی
 کا ذکر کیا ہے اور اس کے ثبوت میں حضرت امیر کے اشعار
 پیش کئے ہیں۔ اس کے بعد ایران سے شیخان علی کی آمد
 کا ذکر کیا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت مجدد علیہ الرحمہ
 کے زمانے سے ۱۲۲۰ھ / ۱۸۲۲ء تک ہندوستان کے
 مسلمانوں میں صرف دو فرقے تھے۔ ایک تو اہلسنت
 و جماعت اور دوسرا اہل تشیع۔ چنانچہ انگریزی عملداری
 کے پہلے پہلے تمام مسلمان زیارتِ قبور اور ایصالِ ثواب
 کے قائل تھے، عرس و عزرائس اور مولود شریف کا اہتمام
 کیا کرتے تھے لہ

اب ہم اپنے ایک مدعا کے اثبات کے بعد دوسرا دعویٰ یہ کرنے جا رہے ہیں کہ
 ماضی قریب میں دیوبندی، وہابی، قادیانی، نیچری یا ان کی ہم خیال جن جماعتوں نے
 جنم لیا ہے ان کے عقائد اسلام کے مسلم اور جمہوری عقائد سے مختلف ہیں اور ان کے زبان
 و قلم نے کچھ ایسے گل کھلائے ہیں کہ عہد رسالت سے آج تک ان کا سراغ نہیں ملتا۔ اور

لے پروفیسر فیاض کاوش۔ ننگ وین ننگ وطن ص ۱۲ ناشر مکتبہ نظامی شیخ نگر بھونڈی۔

بعض عقائد معتزلہ اور خوارج جیسے گمراہ فرقوں سے بھی استفادہ نظر آتے ہیں۔ اور اس پر بھی دعویٰ یہ ہے کہ ہم ہی آج علمبردار توحید ہیں اور باقی تمام امت مسلمہ شرک و بدعت کی دلدل میں ڈوبی ہوئی ہے۔

عالم اسلام کے مستند فقیہ علامہ ابن عابدین شامی متوفی ۱۲۵۲ھ و ہابی مکتب فکر کے آغاز و ارتقاء سے متعلق لکھے ہیں۔

ہمارے زمانے میں محمد بن عبدالوہاب کے پیروکار جو نجد سے نکلے اور عربین پر قابض ہو گئے، وہ اپنے آپ کو حنبلی المذہب کہتے تھے۔ لیکن ان کا اعتقاد یہ تھا کہ مسلمان صرف وہ یا ان کے ہم فکر ہیں اور جن کے عقائد ان سے مختلف ہیں وہ مسلمان نہیں۔ بلکہ مشرک ہیں۔ اس بنا پر انہوں نے اہلسنت اور علماء اہلسنت کے قتل کو جائز رکھا۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہابی مکتب فکر کے بانی محمد بن عبدالوہاب خبری رضی اللہ عنہ ۱۷۹۱ء میں یہ تحریک علماء و مشائخ کی ہزار مخالفتوں کے باوجود سعودی دولت و حکومت کے مہارے وادی حجاز سے نکل کر عرب و عجم کے مختلف خطوں میں پھیل گئی۔ طنطاوی لکھے ہیں: **أَمَّا مُحَمَّدٌ، فَهُوَ صَاحِبُ الدِّمِ مَوْتِهَا الَّتِي عُرِفَتْ بِالْوَهَابِيَّةِ** محمد بن عبدالوہاب کی تحریک عرف عام میں وہابیت کے نام سے متعارف ہے

لہ علامہ ابن عابدین شامی۔ رد المحتار جلد ۲ ص ۲۲۵ مطبوعہ مصر۔ شیخ علی طنطاوی جوہری۔ تہذیب متوفی ۱۳۵۰ھ محمد بن وہاب نجدی ص ۱۳

جب یہ تحریک ہندوستان میں آئی تو اس کی یورش سے پورا برصغیر جہنم کہہ بن گیا یہاں اس کے بطن سے اور بھی کئی فتوں نے جنم لیا بلکہ سچائی تو یہ ہے کہ دیوبندیت و قادیانیت اسی نجدی وہابیت کے ہندوستانی ایڈیشن ہیں۔ اس حقیقت کا سنسنی خیز انکشاف عظیم مفکر ڈاکٹر اقبال نے بھی کیا ہے۔

قادیانیت اور دیوبندیت اگرچہ ایک دوسرے کی ضد ہیں لیکن دونوں کا سرچشمہ ایک ہے اور دونوں اس تحریک کی پیداوار جسے عرف عام میں وہابیت کہا جاتا ہے۔

اس تمہیدی اور اجالی گفتگو کے بعد ہم ذیل میں امکان کذب باری تعالیٰ کے مسئلہ پر قرآن و سنت اور جمہور مسلک اصناف کی روشنی میں بحث کریں گے

اس عقل پرستی اور نفسانی دور میں حق و باطل کا یہی سب سے بڑا معیار ہے، دین اسلام پر ایمان لانے کے بعد ہر اسلامی حکم پر سر تسلیم خم کرنا ہی عین ایمان ہے۔ اس حکم کی غایت و نوعیت سے انسانی عقل متفق ہو یا نہ ہو۔ ایمان لانے کے بعد عقلی سرکشی کی بنیاد پر اسلام کے مسلمہ عقائد اور متواتر معمولات سے سرمواخراہت زندیقیت اور کفر ابیت ہے۔ آپ خود ضمیر سے فیصلہ کیجئے کہ اگر ہر انسان کو اپنی اپنی عقل اور من پسندی کی بنیاد پر اسلامی نظریات طے کرنے کی اجازت دے دی جائے تو اسلام جو امن و مصلحتی

کا گہوارہ ہے اختلاف انتشار کا آتش کدہ بن کر رہ جائے گا پھر نہ کوئی اسلام کا عقیدہ محفوظ رہ سکتا ہے اور نہ کوئی معمول۔

کیا خدا جھوٹ بول سکتا ہے؟ | اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہر بندہ مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ

اللہ تعالیٰ تمام صفات کمالیہ سے متصف اور تمام عیوب و نقائص سے پاک و منزہ ہے اس عقیدے کی روشنی میں ایک عام انسان بھی یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایسے افعال کا صدور ممکن نہیں جو انسانی تاریخ کے ہر دور میں قبیح اور باعث نقص و عیب تصور کئے گئے ہوں، انبیاء و مرسلین بھی ان سے اجتناب کا درس دیتے رہے ہوں اور قرآن و حدیث میں بھی ان پر وعیدیں وارد ہوئی ہوں۔ جیسے جھوٹ، وعدہ خلافی، بد عہدی، زنا، چوری، ظلم، جفا اور حق تلفی وغیرہ۔ اس کے گزرے دور میں بھی یہ دعویٰ پورے جاہ و جلال کے ساتھ کیا جاسکتا ہے کہ کسی انسان میں اگر ذرہ برابر بھی ایمانی حرارت موجود ہے تو وہ انجام سے بے پرواہ ہو کر بھڑکے شعلوں میں چھلانگ تو لگا سکتا ہے مگر یہ نساگوارا نہیں کر سکتا کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، یا وعدہ خلافی اور بد عہدی کر سکتا ہے۔ "بہزار ناگواری خاطر اگر چند لمحوں کے لئے یہ تسلیم کر لیا جائے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے تو اسلام کا پہاڑ سے زیادہ مستحکم اور پر شکوہ قلعہ عین اسی لمحہ زمین بوس ہو جائے گا: خدا آپ خود انصاف کیجئے کہ جب خدا ہی جھوٹ بول سکتا ہے تو

قرآن بھی جھوٹا ہو سکتا ہے اور اس کا رسول بھی، اب اگر قرآن اور رسول جو دین اسلام کی بنیادیں ہیں وہی ستر نزل ہو گئیں تو باقی کیا رہ گیا۔ !!!

وہابی اور دیوبندی مکتب فکر کے عقائد | اس گفت گو کے بعد ذرا نظر اٹھا کر ماضی قریب کا جائزہ لیجئے

آزادی فکر کی زمین سے وہ فتنہ بھی اٹھ کر تناور درخت بن چکا ہے عہد سلف میں جس کے تصور سے بھی ایک بندہ مومن کانپ جاتا تھا۔ یعنی ایک نوزائیدہ مکتب فکر کے عقائد کی فہرست میں یہ عقیدہ بھی شامل ہے کہ "خدا جھوٹ بول سکتا ہے" اب دل تھام کر یہ گمراہ عقیدہ صاحب عقیدہ کے قلم سے پڑھئے۔

برصغیر میں وہابی مکتب فکر کے مبلغ اعظم مولوی اسماعیل دہلوی پوری شان

کج کلہی کے ساتھ رقم طراز ہیں۔

جھوٹ نہ بولنے کو اللہ تعالیٰ کے کمالات سے

عدم کذب و اذکالات حضرت حق سبحانی

مانتے ہیں اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدح

شمارند و امجد ا جل شانہ بآں مدح فی کنند

کرتے ہیں اس کے برخلاف کوئی شخص گونگے اور

برخلاف افس و جماد کہ ایشان را کے بعدم کذب

پتھر کی تعریف جھوٹ بولنے کی صفت کے ساتھ نہیں کریگا

مدح نمی کنند پر ظاہر است

نہذا ظاہر ہے کہ وصف کمال یہی ہے کوئی

کہ صفت کمال ہیں است کہ شفعی قدرت

شخص جھوٹ بولنے پر قدرت رکھنے کے باوجود

بر کلم بکلام کاذب میدارد و با بر رعایت مصلحت

و تقاضائے حکمت بہ تنزد از شوب کذب تکلم بکلام
بر عایت مصلحت و تقاضائے حکمت اور جھوٹ کی
کاذب نمی نماید ہماں شخص مدوح می گردد
آلاتش سے بچتے ہوئے جھوٹ نہیں بولتا۔ اسی
شخص کی تعریف کی جائے گی کہ وہ عیب کذب
سے پاک اور کمالِ صدق سے متصف ہے بخلاف
سلب عیب کذب و اتصاف بکمال صدق بخلاف
کے کہ سان او ماؤف شدہ باشد
اس کے جس کی زبان گنگ ہو۔

اس سرخیل گمراہیت کے ہم فکر وہم نوا اساطین دیوبند بھی ہیں مولوی خلیل احمد
انبیٹھوی کی یہ ہوش اڑا دینے والی تحریر کبھی پڑھیے۔ اگر غم و غصہ سے بارائے ضبط
زعم ہے تو مجھے معاف رکھیں میں صرف ناقل ہوں۔ مولوی خلیل احمد انبیٹھوی لکھتے ہیں۔
امکان کذب کا مسئلہ تو اب جدید کسی نے نہیں بکھولا بلکہ تدا،
میں اختلاف ہوا ہے کہ حلف و عید آیا جائز ہے کہ نہیں اس
پر طعن کرنا پہلے مشائخ پر طعن کرنا ہے، اور اس پر تعجب کرنا
محض لاعلمی اور امکان کذب حلف و عید کی فرع ہے کہ

اس کتاب پر مولوی رشید احمد گنگوہی کی تقریظ خلیل بھی ثبت ہے موصوف رقم طراز ہیں۔
احقر الناس رشید احمد گنگوہی نے اس کتاب براہین قاطعہ
کو اول سے آخر تک بغور دیکھا، الحق یہ جواب کافی اور حجت
والفی اور اپنے مصنف کی وصوف نور علم اور نعت زکا و فہم پر دلیل واضح ہے

سے مولوی اسماعیل دہلوی۔ یک روزی ص ۱۴۲ مطبوعہ دیوبند، سے مولوی فیصل احمد انبیٹھوی، لوفنا براہین قاطعہ ص
مطبوعہ دیوبند، سے مولوی رشید احمد گنگوہی۔ تقریظ براہین قاطعہ مطبوعہ دیوبند

کہیے کیا خیال ہے آپ کا ان بابائے وہابیہ اور اساطین دیوبند کے بارے میں جن کے برق بار قلم کی زد سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ثنات بھی محفوظ رہی۔ ایک بدست شربی کی طرح جو منہ میں آیا بکتے چلے گئے اور جو سمجھ میں آیا کھتے چلے گئے۔ کیا یہ لوگ روزِ محشر قہر الہی کی گرفت سے بچ سکتے ہیں۔ نہیں ہرگز نہیں۔ آہ پوری کاٹنات اپنے رب کی تسبیح و تہلیل میں مصروف ہے اور چند لوگ تنقیص الوہیت میں اپنے فکر و قلم کی توانائیاں صرف کر رہے ہیں۔

امام احمد رضا کا نقطہ نظر | اب ذرا اپنے آپ کو سمجھائے اور دلجمعی اور دہشی
میکھوٹی کے ساتھ "امکان کذب باری تعالیٰ"

کے حوالے سے امام احمد رضا کا عقیدہ و نظریہ ملاحظہ فرمائیے۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں
أَقُولُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقِ وَبِهِ الْوَصُولُ إِلَى ذُرَى التَّحْقِيقِ مُسْلِمَانِ كَايْمَانِ هِيَ كَمْ
مولیٰ سبحانہ و تعالیٰ کے سب صفات کمالیہ بروجہ کمال ہیں۔ جس طرح کسی
صفت کمال کا سلب اس سے ممکن نہیں یونہی معاذ اللہ کسی صفت نقص کا ثبوت
بھی امکان نہیں رکھتا۔ اور صفت کا بروجہ کمال ہونا یہ معنی کہ جس قدر چیزیں اس
کے تعلق کی قابلیت رکھتی ہیں، ان کا کوئی ذرہ اس کے دائرہ سے خارج نہ ہو۔
نہ یہ کہ موجود و معدوم و باطل و موہوم میں کوئی شے و مفہوم بے اس کے تعلق کے
نہ رہے۔ اگرچہ وہ اصلاً صلاحیت تعلق نہ رکھتی ہو اور اس صفت کے دائرہ سے

مذکورہ سطریں اپنے اندر بڑی علمی گہرائی رکھتی ہیں۔

آپ ایک بار پھر گہری نگاہ سے مذکورہ بحث کو پڑھے اور پھر ذیل میں زیر بحث مسئلہ کے تعلق سے امام احمد رضا کے فکر انگیز قلم سے بحث کا حاصل پڑھے۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں۔

یہاں سے ظاہر ہو گیا کہ مغویان تازہ جو اس مسئلہ کذب و دیگر نقائص وغیرہا کی بحث میں بے علموں کو بہکاتے ہیں۔ کہ مثلاً کذب یا فلاں عیب یا فلاں بات پر اللہ عزوجل کو قادر نہ مانا تو معاذ اللہ عاجز ٹھہرا۔ اور۔ **إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ** کا انکار نہ ہوا۔

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ! قَدْرَتِ الْإِلَهِيِّ صِفَتِ كَمَالٍ هُوَ كَرَامَاتٌ هُوَتْ هِيَ مِنْ مَعَاذِ اللَّهِ صفت نقص و عیب اور اگر حالات پر قدرت مانئے تو ابھی انقلاب ہو جاتا ہے۔ وجہ تھے جب کسی حال پر قدرت مافی اور محال محال سب ایک ہے۔ لہذا تمہارے جاہلانہ خیال پر جس حال کو مقدور نہ کہئے اتنا ہی عجز و قصور سمجھے، تو واجب ہے کہ محالات زیر قدرت ہوں۔ اور منجملہ محالات صلب قدرت الہیہ بھی ہے تو لازم کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کھودینے اور اپنے آپ کو عاجز محض بنالینے پر بھی قادر ہو۔ اچھا عموم قدر مانا کہ اصل قدرت ہی ہاتھ سے گئی۔ لے

لے امام احمد رضا قادری مخدوم سبحان اسبوح عن عیب کذب مقبول ص ۹۰ ماہنامہ نئی رموی دارالافتاء بریلی

امام احمد رضا قدس سرہ کی اس ایمان افروز تحریر سے ان کا یہ عقیدہ آفتاب
نیم روز کی طرح روشن ہو گیا کہ خدا کا جھوٹ بولنا کسی طرح ممکن نہیں بلکہ یہ عقیدہ
رکھنا سراسر گمراہی ہے۔ امام احمد رضا نے اپنے اس عقیدے کو اپنی شہرہ آفاق
کتاب ”سبحان السبوح عن عیب کذب مقبوح“ میں سیکڑوں عقلی و نقلی دلائل سے
مبراہن کرتے ہوئے یہ ثابت کیا ہے کہ۔

احتماع کذب باری تعالیٰ پر تمام اشعریہ اور ماتریدیہ کا اجماع ہے۔ اور
یہ کہنا کہ زیر بحث مسئلہ پہلے ہی سے مختلف فیہ چلا آ رہا ہے، بالکل غلط اور اصلاف پر
بے بنیاد الزام ہے بلکہ سچائی یہ ہے کہ امکان کذب باری تعالیٰ کے بطلان پر اہل حق کا
اجماع ہے بلکہ اس مسئلہ میں تو معتزلہ وغیرہ گمراہ فرقے بھی علماء و حق کے ہم نوا اور ہم فکر نظر
آتے ہیں۔

امکان کذب باری تعالیٰ کے حوالے سے آپ نے بابائے وہابیت، اساطین
دیوبند کے عقائد اور امام احمد رضا قادری کا نقطہ نظر ملاحظہ فرمایا۔ اس نظریاتی
کشمکش میں عین ممکن ہے کسی ذہن میں بھی وہابیت نوازی کے جراثیم موجود ہوں اور
وہ اسلامی عقائد کی اس بنیادی بحث سے ارادی یا غیر ارادی طور پر صرف نظر کر کے
گزر جائے کہ یہ مولویوں کے اختلافات ہیں، ہمیں ان سے کیا لینا دینا یہ فکر کی اتنی بڑی

نے تفصیل کے لئے دیکھئے۔ سبحان السبوح عن عیب کذب مقبوح از امام احمد رضا بریلوی۔ ۱۲۳ھ انوار آفتاب حنفیہ از جناب مولانا محمد تقی عثمانی۔ ۱۲۳ھ فیصلہ حق و باطل، از مفتی اجمل شاہ سمبلی وغیرہ۔

غلطی ہے کہ اس کے قیامت خیز اور بھیانک نتائج کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ اس بھری
 کائنات میں ایک بندہ مومن کے لئے دولتِ ایمان ہی تو رب بڑی پونجی ہے اور آپ
 اسی کے تحفظ سے اتنی بے اعتنائی برتیں کہ اس موضوع پر چند لمے غور کرنا بھی گوارا کریں
 ہر شخص اپنے ایمان و عمل کا ذمہ دار ہے یہ کہہ دینا کہ یہ مولویوں کے باہمی اختلافات ہیں
 ہمیں ان سے کیا سروکار انتہائی نادانی اور ایمانی کمزوری ہے۔ عقیدہ کوئی ایسی
 معمولی اور بے وقعت چیز نہیں کہ جب جو چاہا چھوڑ دیا اور جو چاہا اختیار کر لیا، اس کے
 تحفظ کے لئے آپ کو ہمہ دم تازہ دم اور مستعد رہنا ہے اور جو کچھ اختیار کرنا ہے بہت
 کچھ سوچ سمجھ کر اختیار کرنا ہے۔
 "THE NATURAL PHILOSOPHY"
 غیر اختیاری طور پر کچھ گفتگو طویل ہو گئی ہے عرض مدعا صرف اتنا ہے کہ گذشتہ
 ادراک میں آپ نے ایک ہی مسئلہ کے متعلق دو قسم کے عقائد ملاحظہ فرمائے ایک عام انسان
 کے لئے یہ لہو تلوار پر پلنے سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ آخر وہ حق کے جانے اور
 کے مسترد کرے۔ ایسی صورت میں ہمیں ایک انتہائی مستقیم راہ یہ نظر آتی ہے کہ اسلام اور
 اس کے عقائد و معمولات آج کی پیداوار تو ہیں نہیں بلکہ چودہ سو برس سے متواتر اور
 متواتر چلے آ رہے ہیں، ہم اختلافی عقائد و مسائل کے اختیار کرنے کے سلسلہ میں
 قرآن و تفسیر، حدیث و فقہ کی تشریحات اور جمہور سلف صالحین کے عقائد و معمولات
 کو معیار بنالیں بلکہ اسلامی عقائد کی تاریخ کے مطالعہ کے بعد آپ بھی اسی نتیجہ پر

پہنچیں گے کہ ہر دور میں مسلک جمہور ہی اسلام کا معیار حق رہا ہے۔

قرآن و تفاسیر کا اعلان حق | آئیے اب بلا تبصرہ پورے و فوری شوق کے ساتھ
ذیل میں زیر بحث مسئلہ کے تعلق سے قرآن و

تفاسیر کی تشریحات ملاحظہ فرمائیے۔ یہی معیار حق ہے اور اس عہد بلائیں میں یہی
راہ نجات ہے۔ ارشاد ربانی ہے:

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا: اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی،

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا: اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہے۔

وَعَدَا اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ عَهْدًا: اللہ کا وعدہ اللہ وعدہ خلاف نہیں کرتا۔

أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ: من لو بیشک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔

فَلَنْ يَخْلِفَ اللَّهُ وَعْدًا: جب تو اللہ پر گزایا عہد خلاف نہ کرے گا۔

قرآن عظیم میں اس قسم کی کثیر آیات موجود ہیں جن میں پورے زور بیان اور

بھر پور وضاحت کے ساتھ یہ بیان موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سچا ہے اور اس

کا وعدہ حق ہے وہ نہ کبھی بھوٹ بولا ہے اور نہ کبھی بول سکتا ہے اس نے نہ کبھی

وعدہ خلافی کی ہے اور نہ کبھی کر سکتا ہے۔ قرآن عظیم کے ان واضح بیانات کے بعد

۱۔ قرآن کریم، سورۃ نساء آیت نمبر ۸۴ پارہ ۱۷ ۲۔ قرآن کریم، سورۃ نساء آیت نمبر پارہ ۱۷

۳۔ قرآن کریم سورۃ زمر آیت نمبر ۳۰ پارہ ۱۷ ۴۔ قرآن کریم سورۃ یونس آیت نمبر ۵۵ پارہ ۱۷

۵۔ قرآن کریم سورۃ بقرہ آیت نمبر ۸۰ پارہ ۱۷

ابذیل میں چند مشہور زمانہ اور مقبول انام تفاسیر کا بھی مطالعہ کیجئے کہ امکان کذب باری تعالیٰ کے حوالے سے ان چوٹی کے مفسرین کے نظریات و عقائد کیا ہیں۔
تفسیر خازن میں ہے :

يَعْنِي لَا أَحَدًا أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ
مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ نہ کوئی سچا ہے نہ وہ وعدہ
فَإِنَّهُ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادَ وَلَا يَجُورُ عَلَيْهِ الْكُذِبُ
خلافی کرتا ہے اور نہ اس کا جھوٹ بولتا لیکن ہے۔
تفسیر مدارک شریف میں ہے :

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا يَمُزُّهُ
آیت میں استقبام انکار ہی ہے، یعنی خبر وعدہ
اسْتَفْهَامٌ بِمَعْنَى النَّقْيِ أَيْ لَا أَحَدًا أَصْدَقُ مِنْهُ
اور وعید کسی بات میں کوئی شخص اللہ سے
فِي إِخْبَارِهِ وَوَعْدِهِ وَرُغْبَتِهِ لِاسْتِحْوَاحِهِ
زیادہ سچا نہیں کہ اس کا جھوٹ بولنا کسی طرح
الْكُذِبِ عَلَيْهِ لِقَبْحِهِ لِكُونِهِ إِخْبَارًا عَنِ
نہیں نہیں کہ وہ خود اپنے سنی ہی کے اعتبار سے بیج
الشَّيْءِ بِخِلَافِ مَا هُوَ عَلَيْهِ
ہے کہ خلاف واقع خبر دینے کو کہتے ہیں۔
تفسیر بیضاوی شریف میں ہے :

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا إِسْكَارًا
اللہ تعالیٰ اس آیت میں انکار فرماتا ہے کہ کوئی
أَنْ يَكُونَ أَحَدًا كَتَرَصِدًا قَائِمًا فَإِنَّهُ لَا
شخص اللہ سے زیادہ سچا ہو اس کی خبر میں تو
يَسْتَرْقُ الْكُذِبُ إِلَى خَبْرِهِ بِوَجْهِ لِأَنَّهُ
جھوٹ کا کسی طرح کا کوئی سبب تک نہیں

لے علاء الدین علی بن محمد بن ابراہیم بغدادی تفسیر خازن جلد ۱ صفحہ ۱۰۳ مطبوعہ مصر سے عبد اللہ بن احمد بن محمد
نسفی مدارک جلد ۱ صفحہ ۲۳۱ ناشر دار الباز للنشر والتوزیع مکہ المکرمہ

تَقْصُ وَهُوَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مُحَالٌ۔ لے کہ جھوٹ عیب ہے اور عیب اللہ کے لئے محال

تفسیر ابوسعود میں ہے:

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا انْكَارًا لَإِنْ
يَكُونُ أَحَدًا أَصْدَقُ مِنْهُ تَعَالَى فِي وَعْدِهِ
وَسَائِرِ أَخْبَارِهِ وَبَيَانُ لِمَسْحَالِيهِ كَيْفَ
لَا وَالكِذْبُ مُحَالٌ عَلَيْهِ سُبْحَانَ دُونَ غَيْرِهِ

اس آیت سے ثابت ہے کہ وعدہ اور کسی طرح کی
خبر دینے میں اللہ تعالیٰ سے بجا کوئی نہیں اور اس کے محال
ہونے کی صفات بھی ہے اور کیسے نہیں کہ جھوٹ
بونا خدا کے لئے محال بخلاف دوسروں کے۔

تفسیر کبیر میں ہے:

فَلَنْ يَخْلِفَ اللَّهُ عَهْدًا كَمَا يَدُلُّ عَلَى أَصْمِ
سُبْحَانَ مَنْزَرَةٍ عَنِ الكِذْبِ فِي وَعْدِهِ
وَوَعْدِهِ، قَالَ أَصْحَابُنَا لِأَنَّ الكِذْبَ صِفَةٌ
نَقْصٌ وَالتَّقْصُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مُحَالٌ وَقَالَتْ
الْمُعْتَزَلَةُ لِأَنَّ الكِذْبَ قَبِيحٌ لِأَنَّهُ كِذْبٌ
فَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَفْعَلَهُ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الكِذْبَ
مِنْهَا مُحَالٌ أَنْ مَلْخَصًا

اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ اللہ تعالیٰ ہرگز اپنا عہد جھوٹا
نہ کرے گا اس مدعا پر واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ
اپنے ہر وعدے اور وعید میں جھوٹ سے پاک ہے
ہماری جماعت اہلسنت اس دلیل سے کذب الہی کے نامکن
ہونے کی مدعی ہے کہ جھوٹ صفت نقص ہے اور
اور نقص اللہ تعالیٰ کے لئے محال اور معتزلہ اس دلیل
سے مستحمانے ہیں کہ کذب قبیح لہذا ہے تو اللہ تعالیٰ

۱۔ شیخ عبدالرشید ابن عمر البیضاوی۔ تفسیر البیضاوی ص ۱۵

۲۔ علامہ ابو الجود ابو السود عادی، تفسیر ابوسعود جلد ۳ ص ۱۱۲

۳۔ امام فخر الدین رازی۔ تفسیر کبیر۔

سے اس کا صادر ہونا محال

تفسیر روح البیان میں ہے:

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا انْكَسَرُ
لَإِنَّ يَكُونُ أَحَدُ الْكُتُبِ قَائِمَةً فَإِنَّهُ لَا
يَنْتَظِرُ الْكُذِبَ إِلَىٰ خَيْرٍ بِهِ يُوَجَّهُ لِآيَتِهِ
نَقْصٌ وَهُوَ عَلَى اللَّهِ مُحَالٌ دُونَ غَيْرِهِ

اس آیت سے واضح ہے کہ کوئی خدا سے زیادہ
سچا نہیں کیونکہ جھوٹ بولنا ایک عیب ہے اور
عیب اللہ تعالیٰ کے لئے محال ہے
بخلاف دوسروں کے۔

ابھی آپ نے جن شہرہ آفاق ارباب علم و تحقیق کی مدلل تفسیروں کا مطالعہ
کیا یہ تفسیر کی وہ معتبر اور مقبول کتابیں ہیں جو مدعیان امکان کذب باری تعالیٰ
کے دائرہ کدوں میں کبھی حرف آخر اور قابل اعتقاد ہیں۔ ان شواہد کے بعد بھی اس
مدعا پر کہ خدا جھوٹ نہیں بول سکتا مزید کسی اتمام حجت کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟
اس حقیقت کا انکار اب تو بالکل ایسا ہی ہے کہ مورخ کی تیز شعاعوں سے پورا عالم
جگمگا رہا ہو اور کوئی صاحب اپنے حرم کدہ کی چلمن سے جھانک کر ارشاد فرمائیں ابھی
رات باقی ہے۔ میرے عزیز ظہور حق کے بعد باطل پر اڑے رہنا اگر عین اسلام ہے
تو مجھے بتایا جائے کہ پھر ضلالت و گمراہی کس پڑی یا کا نام ہے۔ ممکن ہے برسوں سے اغوا شدہ
ذہنوں میں ابھی اس قسم کے شبہات کلبلا رہے ہوں کہ یہ بات تو کسی قدر صحیح ہے مگر

۱۔ شیخ اسماعیل حنفی بردسوی تفسیر روح البیان سورۃ نسا، صفحہ ۲۵۵ بعد دوم ناشر مکتبہ اسلامیہ شالدرہ کوٹریہ۔

ہم یہ جانتا چاہتے ہیں کہ گذشتہ صدیوں میں جو ائمہ اسلام، فضلاء روزگار اور اربابین
دین و دانش گزرے ہیں اس مسئلہ میں ان کے عقائد و نظریات کیا تھے تو لیجئے۔
تاہم کنگن کو ارسوی کیا ہے پیش خدمت میں جمہور علماء اسلام کے عقائد و نظریات۔

امکان کذب باری تعالیٰ اور مسلک جمہور شرح مواقف میں ہے۔

إِنَّهُ تَعَالَىٰ يَسْتَعِجُ الْهَيْسَتِ اِدْر

عَلَيْهِ الْكُذْبُ اِتِّفَاقًا اَمَّا عِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ

معتزلہ اس مسئلہ میں ہم خیال ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جھوٹ

بونا ممکن نہیں، معتزلہ کے نزدیک اس لئے کہ جھوٹ

برکام ہے اور اللہ تعالیٰ برے کام سے پاک ہے اور ہم

الہیست کے نزدیک اس لئے ناممکن ہے کہ جھوٹ عیب ہے

اور اس پر اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے بر غیب بحال

مُحَالٌ اِجْمَاعًا۔

شرح مواقف کی بحث معجزات میں ہے۔

قَدْ مَرَّ بِي مَسْئَلَةٌ الْكَلَامِ مِنْ مَوْقِفِ الْاِتِّفَاقِ

موقف ایات سے یہ مسئلہ گزر چکا کہ اللہ تعالیٰ کا

جھوٹ بونا ہرگز ممکن نہیں۔

اِمْتِنَاعُ الْكُذْبِ عَلَيْهِ بِسُبْحَانِهِ وَتَعَالَىٰ

سایرہ میں ہے:

بَسْحِيلٌ عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ تَعَالَىٰ سُبْحَانَ النِّقْصِ

عیب کی تمام نشانیاں جیسے جہالت و کذب یہ

علامہ سید شریف نقصا از شرح مواقف ص ۶۰ مطبوعہ نو کھنڈ لکھنؤ سے علامہ سید شریف، شرح مواقف ص ۶۵

کالجہل و الکذب لہ سب اللہ تعالیٰ کے لئے محال ہیں۔

سایرہ کی شرح مسامرہ میں ہے:

لَا خِلَافَ بَيْنَ الْأَشْعَرِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ فِي أَنَّ
كُلَّ مَا كَانَ وَصْفُ نَقْصٍ فَالْبَارِي تَعَالَى عَنْهُ
مُنزَةً وَهُوَ مُحَالٌ عَلَيْهِ تَعَالَى وَالكِذْبُ
وَصْفُ نَقْصٍ ۲۔

اشاعرہ اور غیر اشاعرہ کو اس میں کوئی اختلاف
نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر صفت عیب سے پاک ہے اور
وہ اللہ تعالیٰ کے لئے ممکن بھی نہیں اور جھوٹ
ایک صفت عیب ہے۔

شرح عقائد میں ہے:

كِتَابُ كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى مُحَالٌ ۳۔
طَوَائِعُ الْأَنْوَارِ ۴۔

اللہ تعالیٰ کے کلام کا جھوٹا ہونا محال ہے۔

الْكِذْبُ نَقْصٌ وَالنَّقْصُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مُحَالٌ ۴۔
كُنُزُ الْفَرَائِدِ ۵۔

جھوٹ ایک عیب ہے اور عیب اللہ تعالیٰ کے لئے محال

قَدَسَ تَعَالَى شَأْنُهُ عَنِ الْكِذْبِ شَرَعًا وَ
عَقْلًا أَدْوَى قَبِيحٌ يَكْذِبُ الْعَقْلُ قَبْحَهُ مِنْ
غَيْرِ تَوْقِيفٍ عَلَى شَرَعٍ فَيَكُونُ مُحَالًا فِي حَقِّهِ
تَعَالَى عَقْلًا وَشَرَعًا كَمَا حَقَّقَهُ ابْنُ الْهَيْثَمِ وَغَيْرُهُ ۶۔

عقلی اور شرعی تعاضوں کے پیش نظر اللہ تعالیٰ ہر
طرح جھوٹ سے پاک ہے کیونکہ شرعی آگاہی کے بغیر بھی
جھوٹ عقلی طور پر ناپسندیدہ ہے تو جھوٹ عقلاً اور شرعاً ہر طرح
اللہ تعالیٰ کے لئے محال ہے جیسا کہ امام ابن الہمام وغیرہ اسی محقق پیش کیے

۳۔ علامہ امام محقق علی الاطلاق کمال الدین محمد سایرہ صفحہ ۱۶۶۔ علامہ کمال الدین محمد بن محمد بن ابی شریف قدسی، مسامرہ صفحہ ۲۴۔
۴۔ علامہ تقی زانی، شرح عقائد نسفی صفحہ ۱۵۵۔ طوائع الانوار، فرع متعلق ببحث کلام، ۵۔ کنز الفرائد۔

مسلم الثبوت میں ہے :

الْمُعْتَزَلَةُ قَالُوا لَوْلَا كَوْنُ الْحُكْمِ عَقْلِيًّا لَمَا

معتزلہ نے کہا، اگر حکم عقلی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے لئے

امْتَنَعَ الْكُذْبُ مِنْهُ تَعَالَى عَقْلًا وَالْجَوَابُ

امتناع کذب عقلی نہیں رہے گا۔ اہلسنت کا جواب

أَنَّهُ نَقْصٌ فَيَجِبُ تَنْزِيهُهُ تَعَالَى عَنْهُ

یہ کہ کذب اس لئے محال ہے کہ وہ نقص ہے اور اللہ

كَيْفَ وَقَدْ مَرَّ بِهِ عَقْلِيٌّ بِاتِّفَاقِ الْعُقَلَاءِ

تعالیٰ کا اس سے پاک ہونا واجب ہے، امتناع

لَإِنَّ مَا يَنُفِي الْوُجُوبَ الَّذِي مِنْ جُمْلَةِ

کذب کے عقلی ہونے پر تمام اہل دین و دانش کا اتفاق

النَّقْصِ فِي حَقِّ الْبَارِي تَعَالَى وَمِنَ الْإِسْتِحْ

ہے۔ دلیل یہ ہے کہ کذب الوہیت کی ضمنی اور جو چیز الوہیت

الْعَقْلِيَّةِ عَلَيْهِ بِبِحَاقَتِهِ لَمْ

کی قدر ہو وہ اللہ کے عیب و اس کی شان میں محال عقلی

قواح الرحموت میں ہے۔

إِنَّهُ تَعَالَى صَادِقٌ قَطْعًا لِإِسْحَالِهِ الْكُذْبُ هُنَا

یقیناً اللہ تعالیٰ سچا ہے وہاں جھوٹ کا امکان ہی نہیں

شرح فقہ اکبر میں ہے :

الْكُذْبُ عَلَيْهِ تَعَالَى مُحَالٌ

اللہ تعالیٰ کے لئے جھوٹ بولنا محال ہے۔

شرح عقائد جلالی میں ہے :

الْكُذْبُ نَقْصٌ وَالنَّقْصُ عَلَيْهِ مُحَالٌ

جھوٹ عیب ہے اور جھوٹ اللہ تعالیٰ کے لئے محال

فَلَا يَكُونُ مِنَ الْمُمْكَاتِ، وَلَا تَشْمَلُهُ لِقْدَامُ

تو جھوٹ اللہ کے لئے ممکن نہیں اور قدرت الہی

۱۳۱
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۴
۱۳۵
۱۳۶
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰
۱۵۱
۱۵۲
۱۵۳
۱۵۴
۱۵۵
۱۵۶
۱۵۷
۱۵۸
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰
۲۰۱
۲۰۲
۲۰۳
۲۰۴
۲۰۵
۲۰۶
۲۰۷
۲۰۸
۲۰۹
۲۱۰
۲۱۱
۲۱۲
۲۱۳
۲۱۴
۲۱۵
۲۱۶
۲۱۷
۲۱۸
۲۱۹
۲۲۰
۲۲۱
۲۲۲
۲۲۳
۲۲۴
۲۲۵
۲۲۶
۲۲۷
۲۲۸
۲۲۹
۲۳۰
۲۳۱
۲۳۲
۲۳۳
۲۳۴
۲۳۵
۲۳۶
۲۳۷
۲۳۸
۲۳۹
۲۴۰
۲۴۱
۲۴۲
۲۴۳
۲۴۴
۲۴۵
۲۴۶
۲۴۷
۲۴۸
۲۴۹
۲۵۰
۲۵۱
۲۵۲
۲۵۳
۲۵۴
۲۵۵
۲۵۶
۲۵۷
۲۵۸
۲۵۹
۲۶۰
۲۶۱
۲۶۲
۲۶۳
۲۶۴
۲۶۵
۲۶۶
۲۶۷
۲۶۸
۲۶۹
۲۷۰
۲۷۱
۲۷۲
۲۷۳
۲۷۴
۲۷۵
۲۷۶
۲۷۷
۲۷۸
۲۷۹
۲۸۰
۲۸۱
۲۸۲
۲۸۳
۲۸۴
۲۸۵
۲۸۶
۲۸۷
۲۸۸
۲۸۹
۲۹۰
۲۹۱
۲۹۲
۲۹۳
۲۹۴
۲۹۵
۲۹۶
۲۹۷
۲۹۸
۲۹۹
۳۰۰
۳۰۱
۳۰۲
۳۰۳
۳۰۴
۳۰۵
۳۰۶
۳۰۷
۳۰۸
۳۰۹
۳۱۰
۳۱۱
۳۱۲
۳۱۳
۳۱۴
۳۱۵
۳۱۶
۳۱۷
۳۱۸
۳۱۹
۳۲۰
۳۲۱
۳۲۲
۳۲۳
۳۲۴
۳۲۵
۳۲۶
۳۲۷
۳۲۸
۳۲۹
۳۳۰
۳۳۱
۳۳۲
۳۳۳
۳۳۴
۳۳۵
۳۳۶
۳۳۷
۳۳۸
۳۳۹
۳۴۰
۳۴۱
۳۴۲
۳۴۳
۳۴۴
۳۴۵
۳۴۶
۳۴۷
۳۴۸
۳۴۹
۳۵۰
۳۵۱
۳۵۲
۳۵۳
۳۵۴
۳۵۵
۳۵۶
۳۵۷
۳۵۸
۳۵۹
۳۶۰
۳۶۱
۳۶۲
۳۶۳
۳۶۴
۳۶۵
۳۶۶
۳۶۷
۳۶۸
۳۶۹
۳۷۰
۳۷۱
۳۷۲
۳۷۳
۳۷۴
۳۷۵
۳۷۶
۳۷۷
۳۷۸
۳۷۹
۳۸۰
۳۸۱
۳۸۲
۳۸۳
۳۸۴
۳۸۵
۳۸۶
۳۸۷
۳۸۸
۳۸۹
۳۹۰
۳۹۱
۳۹۲
۳۹۳
۳۹۴
۳۹۵
۳۹۶
۳۹۷
۳۹۸
۳۹۹
۴۰۰
۴۰۱
۴۰۲
۴۰۳
۴۰۴
۴۰۵
۴۰۶
۴۰۷
۴۰۸
۴۰۹
۴۱۰
۴۱۱
۴۱۲
۴۱۳
۴۱۴
۴۱۵
۴۱۶
۴۱۷
۴۱۸
۴۱۹
۴۲۰
۴۲۱
۴۲۲
۴۲۳
۴۲۴
۴۲۵
۴۲۶
۴۲۷
۴۲۸
۴۲۹
۴۳۰
۴۳۱
۴۳۲
۴۳۳
۴۳۴
۴۳۵
۴۳۶
۴۳۷
۴۳۸
۴۳۹
۴۴۰
۴۴۱
۴۴۲
۴۴۳
۴۴۴
۴۴۵
۴۴۶
۴۴۷
۴۴۸
۴۴۹
۴۵۰
۴۵۱
۴۵۲
۴۵۳
۴۵۴
۴۵۵
۴۵۶
۴۵۷
۴۵۸
۴۵۹
۴۶۰
۴۶۱
۴۶۲
۴۶۳
۴۶۴
۴۶۵
۴۶۶
۴۶۷
۴۶۸
۴۶۹
۴۷۰
۴۷۱
۴۷۲
۴۷۳
۴۷۴
۴۷۵
۴۷۶
۴۷۷
۴۷۸
۴۷۹
۴۸۰
۴۸۱
۴۸۲
۴۸۳
۴۸۴
۴۸۵
۴۸۶
۴۸۷
۴۸۸
۴۸۹
۴۹۰
۴۹۱
۴۹۲
۴۹۳
۴۹۴
۴۹۵
۴۹۶
۴۹۷
۴۹۸
۴۹۹
۵۰۰
۵۰۱
۵۰۲
۵۰۳
۵۰۴
۵۰۵
۵۰۶
۵۰۷
۵۰۸
۵۰۹
۵۱۰
۵۱۱
۵۱۲
۵۱۳
۵۱۴
۵۱۵
۵۱۶
۵۱۷
۵۱۸
۵۱۹
۵۲۰
۵۲۱
۵۲۲
۵۲۳
۵۲۴
۵۲۵
۵۲۶
۵۲۷
۵۲۸
۵۲۹
۵۳۰
۵۳۱
۵۳۲
۵۳۳
۵۳۴
۵۳۵
۵۳۶
۵۳۷
۵۳۸
۵۳۹
۵۴۰
۵۴۱
۵۴۲
۵۴۳
۵۴۴
۵۴۵
۵۴۶
۵۴۷
۵۴۸
۵۴۹
۵۵۰
۵۵۱
۵۵۲
۵۵۳
۵۵۴
۵۵۵
۵۵۶
۵۵۷
۵۵۸
۵۵۹
۵۶۰
۵۶۱
۵۶۲
۵۶۳
۵۶۴
۵۶۵
۵۶۶
۵۶۷
۵۶۸
۵۶۹
۵۷۰
۵۷۱
۵۷۲
۵۷۳
۵۷۴
۵۷۵
۵۷۶
۵۷۷
۵۷۸
۵۷۹
۵۸۰
۵۸۱
۵۸۲
۵۸۳
۵۸۴
۵۸۵
۵۸۶
۵۸۷
۵۸۸
۵۸۹
۵۹۰
۵۹۱
۵۹۲
۵۹۳
۵۹۴
۵۹۵
۵۹۶
۵۹۷
۵۹۸
۵۹۹
۶۰۰
۶۰۱
۶۰۲
۶۰۳
۶۰۴
۶۰۵
۶۰۶
۶۰۷
۶۰۸
۶۰۹
۶۱۰
۶۱۱
۶۱۲
۶۱۳
۶۱۴
۶۱۵
۶۱۶
۶۱۷
۶۱۸
۶۱۹
۶۲۰
۶۲۱
۶۲۲
۶۲۳
۶۲۴
۶۲۵
۶۲۶
۶۲۷
۶۲۸
۶۲۹
۶۳۰
۶۳۱
۶۳۲
۶۳۳
۶۳۴
۶۳۵
۶۳۶
۶۳۷
۶۳۸
۶۳۹
۶۴۰
۶۴۱
۶۴۲
۶۴۳
۶۴۴
۶۴۵
۶۴۶
۶۴۷
۶۴۸
۶۴۹
۶۵۰
۶۵۱
۶۵۲
۶۵۳
۶۵۴
۶۵۵
۶۵۶
۶۵۷
۶۵۸
۶۵۹
۶۶۰
۶۶۱
۶۶۲
۶۶۳
۶۶۴
۶۶۵
۶۶۶
۶۶۷
۶۶۸
۶۶۹
۶۷۰
۶۷۱
۶۷۲
۶۷۳
۶۷۴
۶۷۵
۶۷۶
۶۷۷
۶۷۸
۶۷۹
۶۸۰
۶۸۱
۶۸۲
۶۸۳
۶۸۴
۶۸۵
۶۸۶
۶۸۷
۶۸۸
۶۸۹
۶۹۰
۶۹۱
۶۹۲
۶۹۳
۶۹۴
۶۹۵
۶۹۶
۶۹۷
۶۹۸
۶۹۹
۷۰۰
۷۰۱
۷۰۲
۷۰۳
۷۰۴
۷۰۵
۷۰۶
۷۰۷
۷۰۸
۷۰۹
۷۱۰
۷۱۱
۷۱۲
۷۱۳
۷۱۴
۷۱۵
۷۱۶
۷۱۷
۷۱۸
۷۱۹
۷۲۰
۷۲۱
۷۲۲
۷۲۳
۷۲۴
۷۲۵
۷۲۶
۷۲۷
۷۲۸
۷۲۹
۷۳۰
۷۳۱
۷۳۲
۷۳۳
۷۳۴
۷۳۵
۷۳۶
۷۳۷
۷۳۸
۷۳۹
۷۴۰
۷۴۱
۷۴۲
۷۴۳
۷۴۴
۷۴۵
۷۴۶
۷۴۷
۷۴۸
۷۴۹
۷۵۰
۷۵۱
۷۵۲
۷۵۳
۷۵۴
۷۵۵
۷۵۶
۷۵۷
۷۵۸
۷۵۹
۷۶۰
۷۶۱
۷۶۲
۷۶۳
۷۶۴
۷۶۵
۷۶۶
۷۶۷
۷۶۸
۷۶۹
۷۷۰
۷۷۱
۷۷۲
۷۷۳
۷۷۴
۷۷۵
۷۷۶
۷۷۷
۷۷۸
۷۷۹
۷۸۰
۷۸۱
۷۸۲
۷۸۳
۷۸۴
۷۸۵
۷۸۶
۷۸۷
۷۸۸
۷۸۹
۷۹۰
۷۹۱
۷۹۲
۷۹۳
۷۹۴
۷۹۵
۷۹۶
۷۹۷
۷۹۸
۷۹۹
۸۰۰
۸۰۱
۸۰۲
۸۰۳
۸۰۴
۸۰۵
۸۰۶
۸۰۷
۸۰۸
۸۰۹
۸۱۰
۸۱۱
۸۱۲
۸۱۳
۸۱۴
۸۱۵
۸۱۶
۸۱۷
۸۱۸
۸۱۹
۸۲۰
۸۲۱
۸۲۲
۸۲۳
۸۲۴
۸۲۵
۸۲۶
۸۲۷
۸۲۸
۸۲۹
۸۳۰
۸۳۱
۸۳۲
۸۳۳
۸۳۴
۸۳۵
۸۳۶
۸۳۷
۸۳۸
۸۳۹
۸۴۰
۸۴۱
۸۴۲
۸۴۳
۸۴۴
۸۴۵
۸۴۶
۸۴۷
۸۴۸
۸۴۹
۸۵۰
۸۵۱
۸۵۲
۸۵۳
۸۵۴
۸۵۵
۸۵۶
۸۵۷
۸۵۸
۸۵۹
۸۶۰
۸۶۱
۸۶۲
۸۶۳
۸۶۴
۸۶۵
۸۶۶
۸۶۷
۸۶۸
۸۶۹
۸۷۰
۸۷۱
۸۷۲
۸۷۳
۸۷۴
۸۷۵
۸۷۶
۸۷۷
۸۷۸
۸۷۹
۸۸۰
۸۸۱
۸۸۲
۸۸۳
۸۸۴
۸۸۵
۸۸۶
۸۸۷
۸۸۸
۸۸۹
۸۹۰
۸۹۱
۸۹۲
۸۹۳
۸۹۴
۸۹۵
۸۹۶
۸۹۷
۸۹۸
۸۹۹
۹۰۰
۹۰۱
۹۰۲
۹۰۳
۹۰۴
۹۰۵
۹۰۶
۹۰۷
۹۰۸
۹۰۹
۹۱۰
۹۱۱
۹۱۲
۹۱۳
۹۱۴
۹۱۵
۹۱۶
۹۱۷
۹۱۸
۹۱۹
۹۲۰
۹۲۱
۹۲۲
۹۲۳
۹۲۴
۹۲۵
۹۲۶
۹۲۷
۹۲۸
۹۲۹
۹۳۰
۹۳۱
۹۳۲
۹۳۳
۹۳۴
۹۳۵
۹۳۶
۹۳۷
۹۳۸
۹۳۹
۹۴۰
۹۴۱
۹۴۲
۹۴۳
۹۴۴
۹۴۵
۹۴۶
۹۴۷
۹۴۸
۹۴۹
۹۵۰
۹۵۱
۹۵۲
۹۵۳
۹۵۴
۹۵۵
۹۵۶
۹۵۷
۹۵۸
۹۵۹
۹۶۰
۹۶۱
۹۶۲
۹۶۳
۹۶۴
۹۶۵
۹۶۶
۹۶۷
۹۶۸
۹۶۹
۹۷۰
۹۷۱
۹۷۲
۹۷۳
۹۷۴
۹۷۵
۹۷۶
۹۷۷
۹۷۸
۹۷۹
۹۸۰
۹۸۱
۹۸۲
۹۸۳
۹۸۴
۹۸۵
۹۸۶
۹۸۷
۹۸۸
۹۸۹
۹۹۰
۹۹۱
۹۹۲
۹۹۳
۹۹۴
۹۹۵
۹۹۶
۹۹۷
۹۹۸
۹۹۹
۱۰۰۰

کَسَائِرُ وَجُوهِ النُّقْصِ عَلَيْهِ تَعَالَى

اے شامل نہیں جسے تمام اسباب عیب مثلاً جبل و بحر کریم (رسول اللہ

كَالْجَهْلِ وَالْعُجْزِ لَهُ

تعالیٰ کے لئے محال اور صلاحیت قدرت سے خارج)

عقائدِ عقیدہ میں ہے :

مُصَيِّفٌ بِجَمِيعِ صِفَاتِ الْكَمَالِ وَمُنْزَعٌ عَنِ

اللہ تعالیٰ تمام اوصافِ کمالیہ سے مصف اور علامات

سِمَاتِ النُّقْصِ اَجْمَعِ عَلَيْهِ الْعُقُلَاءُ

نقص سے پاک ہے اور اس پر تمام عقلا و ذکا کا اتفاق ہے

حوالے ملے چلے گئے اور میں نقل کرتا چلا گیا، ایک ہی مفہوم کی مسلسل عبارتیں

پڑھتے پڑھتے آپ کہیں کتابت نہ محسوس کریں بس اس خیال سے میں نے قلم روک

دیا، ورنہ میرے سامنے عقائد و کلام کے موضوع پر صدیوں پرانی کتابوں کی ایک

لمبی فہرست موجود ہے جن کی انتہائی واضح اور مدلل عبارتیں عقیدہ و ایمان کی

سب بلند چوٹی سے چیخ چیخ کر یہ اعلان کر رہی ہیں کہ اسلام کے ہر دور میں ائمہ

مستکلمین اور فقہاء و محدثین کا یہ اجماعی اور غیر مختلف فیہ عقیدہ رہا ہے کہ خدا کا جھوٹ

بولنا کسی طرح ممکن نہیں بلکہ شرعاً و عقلاً بہر صورت محال ہے۔ اور "امکان کذب

باری تعالیٰ" کے قائلین مراسر گمراہی اور بے دینی کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں

اس طویل گفتگو کے بعد ہم اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں کہ اگر ان کے دلوں پر

گمراہی و بد عقیدگی کی بہر میں نہیں لگی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان گم گمشدگان راہ کو

ہدایت نصیب فرمائے۔ آمین

مشاہیر اسلام کے فیصلہ کن عقائد

آپ نے مندرجہ بالا جن کتابوں کی عبارتیں ملاحظہ فرمائیں۔ یہ عام طور

پر علماء و محققین کے زیر مطالعہ رہتی ہیں۔ اب ہم ذیل میں آپ کے ان جانے پہچانے بزرگوں کے عقیدے پر دقلم کرتے ہیں جن کے اسمائے گرامی زبان زد عوام و خواص رہتے ہیں اور برصغیر میں عامۃ المسلمین کے لئے جن کے ارشادات حرف آخر اور سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ — حقرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا عقیدہ۔

قَوْلُهُ أَحِبُّبْ وَأَسْتَحِبُّبْ خَيْرٌ وَأَخْبَرٌ لَا يُعْتَرُ
 عَلَيْهِ النَّسْخُ لِأَنَّهُ إِذَا نَسَخَ صَارَ كَذِبًا
 وَتَعَالَى اللَّهُ عَنِ ذَٰلِكَ عُلُوًّا سَبِيْرًا وَخَيْرٌ لِلَّهِ
 تَعَالَى لَا يَقَعُ بِخِلَافٍ مُّخْبِرًا نَهْ
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں قبول کرتا ہوں اور سنجیدہ
 خیر ہے اور خیر منسوخ نہیں ہوتی کیونکہ اگر خیر منسوخ ہوئے
 تو خیر چھوٹا ہو جائیگا اور ذات باری تعالیٰ اس پاک
 اور اللہ تعالیٰ کی خبر اپنے خیر کے خلاف نہیں ہو سکتی۔

مفتیانِ قضاوٹے عالمگیری کا عقیدہ۔

اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کو ایسے وصف سے متصف کیا جو شان الہی کے لائق نہ ہو...
 یا اللہ تعالیٰ کی طرف جہالت، عاجزی یا نقص کو منسوب کیا تو وہ کافر ہو گیا۔

امام ربانی مجدد الف ثانی کا عقیدہ

لہ غوث اعظم محمد بن عبدین جیلانی بنداوی۔ غنیۃ الطالبین ص ۱۵۱ تے قضاوے عالمگیری اردو جلد دوم ص ۹۳۵

اَوْتَعَالَىٰ اَزْجَمِيعِ نَقَائِصٍ وَسَمَاتٍ اَللّٰهُ تَعَالَىٰ تَمَامِ نَقَائِصٍ اَوْرِ غَلَامَاتِ مَدُوْتِ
 حُدُوْتِ مَنَزَكَ وَ مَبْرَا سَمَاتِ سَے پَاكِ اَوْرِ بَرْتَرِہے۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا عقیدہ:

وَلَا يَصِحُّ عَلَيْهِ الْحَرَكَةُ وَالْإِنْتِقَالُ وَ
 التَّبَدُّلُ فِي ذَاتِهِ وَلَا فِي صِفَاتِهِ الْيَهْلُ اَللّٰهُ تَعَالَىٰ كِي ذَاتِ اَوْرِ صِفَاتِ كَے لَے حَرَكَتِ
 اَوَّلِ كَذِبُہ اِنْتِقَالِ بَدَلْنَا، جِهَالَتِ اَوْرِ تَجھوٹِ كَا
 اِنْتِسَابِ صَحِيْحِ ہيں۔

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا عقیدہ:

خَيْرٌ اَوْتَعَالَىٰ كَلَامِ اَزْجَمِيعِ اَمَاتٍ وَ كُنْ بِدَرَا اَللّٰهُ تَعَالَىٰ كِي خَيْرِ كَلَامِ اَزْجَمِيعِ اَوْرِ كَلَامِ كَا جُھوٹَا
 كَلَامِ نَقْصَانِيَّتِ عَظِيْمِ كَے ہر گز بَصِفَاتِ ہونا بہت بُرَا نَقْصِ جُوہِ رُكُزِ اَللّٰهُ تَعَالَىٰ كِي صِفَاتِ
 اَوْ نِيَابِدِ رَحْمَتِ اَوْتَعَالَىٰ كَے مَبْرَا اَزْجَمِيعِ مِيں دَاخِلِ ہيں ہوسكَا كَے وَ تَمَامِ غِيُوْبِ نَقَائِصِ
 عِيُوْبِ وَ نَقَائِصِ اَسْتِ خَلَا فِ خَيْرِ وَاوَقِعِ سَے پَاكِ ہے، فَلَافِ دَاوَقِعِ خَيْرِ مَطْلَقَا
 مَطْلَقَا نَقْصَانِ مَحْضِ اَسْتِ ہے نَقْصَانِ مَحْضِ ہے۔

علامہ شمس الدین محمد بن عبداللہ ترمذی کا عقیدہ:

لَا يُوصَفُ اللهُ تَعَالَىٰ بِالْعُدْمِ اَوْ عَلَى الظُّلْمِ وَ
 السُّفْهِ وَالْكَذِبِ لِاِنَّ الْمَحَالَ لَا يَدْخُلُ تَحْتِ اَللّٰهُ تَعَالَىٰ ظَلْمِ، جَمَاعَتِ اَوْرِ تَجھوٹِ سَے
 مَسْتَصِفِ ہيں ہوسكَا كِيونكہ مَحَالِ قَدْرَتِ كَے تَحْتِ

اے شیخ احمد مجدد الف ثانی۔ مکتوبات امام ربانی۔ مکتوب نمبر ۲۹۹ کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حسن العقیدہ
 کہ شاہ عبدالعزیز دہلوی، تفسیر عزیزی پارہ نمبر ۱ ص ۲۱۲

الْقُدَمَاةُ

داخل نہیں ہوتا۔

علامہ ابراہیم باجوری کا عقیدہ :

الْقُدَمَاةُ لَا تَتَلَوُّ بِالْمُسْتَحِيلِ فَلَا ضَيْرَ فِي

قدرت محال کو شامل نہیں ہوتی تو اس میں کوئی

ذَلِكَ كَمَا لَا ضَيْرَ فِي أَنْ يُقَالَ لَا يُعْقَدُ وَاللَّهُ

حرج نہیں جیسا کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ کہا

عَلَى أَنْ يَتَّخِذَ وَالدَّاءُ وَوَجْهَهُ أَوْ تَمَّ ذَالِكُ

جائے کہ اللہ تعالیٰ اولاد اور بیوی وغیرہ کے بنانے پر قادر نہیں

ان جمہور علماء عظام اور مشائخ کبار کے عقائد کی روشنی میں یہ حقیقت چودہویں

کے چاند کی طرح منور ہو گئی کہ مجدد اعظم امام احمد رضا بریلوی کسی جدید کتب فکر کے بانی

نہیں تھے بلکہ آپ انہیں عقائد و نظریات کے حامل و ترجمان تھے جو ان سے پہلے عہد

رسالت تک تمام جمہور علماء حق کے رہے ہیں۔ اب اس بحث کے آخر میں امام احمد

رضا کے قلم سے ایک انتہائی بصیرت افروز اور فکر انگیز ہدایت نامہ پڑھیے اگر دل و دماغ

کو واقعی حق کی تلاش ہے تو انشاء اللہ ایمان تازہ اور مشام جاں معطر ہو جائے گی۔

اور اس دل آویز اسلوب حق کی چاشنی سے آپ زندگی بھر لطف اندوز ہوتے رہیں گے

امام احمد رضا قدس سرہ اپنی تصنیف «سُبْحَانُ السُّبُوْحِ عَنْ عَيْبِ كَذِبٍ حَقِيقَةٍ

کے آخر میں «التماس ہدایت اساس» کے زیر عنوان رقم طراز ہیں۔

۱۔ شمس الدین محمد بن عبداللہ الترمذی، معین المفتی فی جواب المستفتی بحوالہ تقدیس الوکیل من توہین الرشید الخلیل

از مولانا غلام دستگیر قصوری مصدقہ علماء حرمین شریفین۔

۲۔ حاشیہ متن سنویہ بحوالہ تقدیس الوکیل ص ۳۱۹

اے میرے پیارے بھائیو! کلمہ اسلام کے ہمراہ سو! اگرچہ نفس امارہ رہزن
عیارہ اور شیطان لعین اس کا معین و لہذا خطا کا اقرار آدمی کو ناگوار۔ مگر واللہ

رَادَاتِلْ لَهُ آتَى اللهُ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِشْتِمِ - كِي أَنْتَ سَخَتْ شَدِيدَ - أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ وَشِيدٌ

خدا را ذرا انصاف کو کام فرماؤ، خلق کا کیا پاس خالق سے شرمناؤ۔ کچھ دیکھا بھی کس پر
امکان کی ہمت دھرتے ہو۔ کس پاک بے عیب میں عیب آنے کا احتمال کرتے ہو۔

المعلمة لله - ارے وہ خدا ہے سب خوبیوں والا۔ ہر عیب و نقصان سے پاک

نرالا۔ خدا تو گریبان میں منہ ڈالو۔ جس نے زبان عطا فرمائی اس کے ہارے میں تو

زبان سنبھالو۔ واسطے انصافی نہیں کوئی جھوٹا کہے تو آپے میں نہ رہو۔ اور ملک

جبار و لحد قہار کا جھوٹا ہونا یوں ممکن کہو۔ یہ کون دیا نت ہے۔ کیا انصاف ہے اس

پر یہ قہر اصرار یہ بلا اعتراف ہے۔

اس کے بعد امام احمد رضا کا یہ درد انگیز تیور بھی ملاحظہ فرمائیے۔

اے طالب حائفہ! اے قوم مفتون! مانو تو ایک سہل تدبیر تمہیں بتاؤں۔ میرا

رسالہ تنہائی میں بیٹھ کر بغور دیکھو۔ ان دو نمود لائل و اعراضات کو ایک ایک کر کے

انصاف سے پرکھو۔ جان برادر احقاق حق کو ایک دلیل کافی، ابطال باطل کو ایک

اعراض وافی، نہ کہ دلائل باہرہ، اعراضات قاہرہ صدہا صنوا اور ایک نہ گنو۔ دل

میں جانتے جاؤ کہ دلائل باصواب اور اعراض لاجواب۔ مگر ماننے کی قسم تو بہ کی آن،

بلکہ الٹے تائید باطل کی فکر سامان۔ یہ تو حق پرستی نہ ہوئی۔ باد بدستی ہوئی۔ نشتہ
 تعصب میں سیاہ ہستی ہوئی۔ پھر قیامت تو نہ آئے گی۔ حساب تو نہ ہوگا۔ خدا کے
 حضور سوال و جواب تو نہ ہوگا۔ اے رب میرے ہدایت فرما اور ان لچیلی آنکھوں کو

کچھ تو سزا۔ ے نی تو انی کہ دہی اشک مرا حسن بقول

اے کہ در ساختہ قطرہ بارانی رالہ

امام احمد رضا قدس سرہ کے قلم کی یہ درد مندانہ اپیل تعصب اور تنگ نظری سے

بالا تیر ہو کر ایک بار پھر پڑھے اصلاح افکار کے لئے اخلاص و درمندی کی اثر انگیزی
 سے الفاظ کا قالب تک جھنجھٹا کر رہ گیا ہے انھوں نے تقدیس الوہیت کے تحفظ
 کے لئے مدلل اور پر زور پیرایہ بیان سے لے کر متانت و سنجیدگی کے دل آویز لب و
 لہجہ تک کوئی گوشہ اٹھا نہیں رکھا۔

ایک جانب دیوبندی مکتب کے مولویوں کو یہ غرہ ہے کہ توحید پرست صرف
 وہی ہیں اور عقیدہ کی گمراہی کا عالم یہ ہے کہ وہ منزل امکان سے بھی چار تدم
 آگے بڑھ کر عالم واقعہ میں خدا کو جھوٹا کہنے والے کو بھی سچا پکا مسلمان کہتے
 ہیں۔ اب ذرا دل تنگم کر ان کی گمراہی کا نقطہ عروج امام احمد رضا
 کے قلم سے پڑھے۔

اے امام احمد رضا بریلوی طحفاً سبحان السبوح عن عیب کذب مقبوح ص ۱۱۰۔ ناشر سنی رضوی
 دارالاشاعت بریلی شریف

رشید احمد گنگوہی نے پہلے تو اپنے طالبِ اسمعیل دہلوی کے اتباع سے اشدّ عزّ و خلّ پر یہ افسر باندھا کہ اس کا جھوٹا ہونا بھی ممکن ہے۔ میں نے اس کی بیہودہ بکو اس کا رد ایک مستقل کتاب میں کیا، جس کا نام "سبحن السبوح عن عیب کذب مقبوح" رکھا۔ میں نے یہ کتاب بذریعہ رجسٹری اس کی طرف اس پر بھیجی، اس کی طرف سے وصولیابی کی رسید بھی آگئی جسے گیارہ برس ہوئے (مگر کوئی جواب نہیں ملا) اس کے بعد بجائے اصلاح قبول کرنے کے، وہ ظلم و گمراہی میں اس قدر بڑھا کہ اپنے ایک فتوے میں جو اس کا پہری دستخطی میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا جو بیٹھی وغیرہ میں بارہا مع رد کے چھپا) صاف لکھ گیا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بالفعل جھوٹا مانے اور تصریح کرے کہ (معاذ اللہ) اللہ تعالیٰ جھوٹ بولا اور یہ بڑا عیب اس سے صادر ہو چکا تو اسے کفر بالا طاق، گمراہی درکنار، فاسق بھی نہ کہو۔

دیکھ رہے ہیں آپ بارگاہِ الہی کے ان گستاخوں کی بدستی اور دریدہ دہنی اب آپ اپنے ضمیر کی آواز سے آواز ملا کر مجھے جواب دیں کہ زیر بحث مسئلہ کے تعلق سے قرآن و سنت اور مسلک اسلاف کے عین مطابق امام احمد رضا کا عقیدہ و نظریہ ہے یا علماء دیوبند کا؟ ۴۔ وَاللّٰهُ الْمَوْفِقُ وَالْهَادِي

۱۰ امام احمد رضا (ص) اطرین علی سخر کفر والین لمخفا، قادری بک ڈپو بریلی ص ۲۲